



سوال

(179) قادیانیوں کا دوسرا سوال

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

تیسری:

وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جِنْدًا لِّأَيُّكُمُ الطَّعَامِ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ ▲ ... سورة الانبياء

"اور ہم نے ان کے ایسے ہی جسم نہیں بنائے تھے کہ کھانا نہ کھائیں اور نہ وہ ہمیشہ رہنے والے تھے"

الجواب بعون الوهاب بشرط صحة السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلوة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

یہ آیت اس بات کی قطعاً دلیل نہیں ہے، یہودیوں نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل و سولی کی سازش کی تو وہ فوت ہو گئے بلکہ اس آیت میں تو یہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرات انبیاء و مرسلین علیہ السلام جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی شامل ہیں ایسے جسم نہ تھے جو کھانا نہ کھاتے ہوں بلکہ دیگر انسانوں کی طرح حضرات انبیاء کرام علیہ السلام بھی کھانا کھایا کرتے تھے دوسری بات اس آیت میں یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے بھی نہ تھے اہل سنت کا اسی پر ایمان ہے کہ دیگر رسولوں کی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ایک دن فوت ہوں گے لیکن کتاب و سنت کے دیگر دلائل سے یہ ثابت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام موت کا جام اس وقت نوش فرمائیں گے جب وہ آخر زمانے میں حاکم عادل کی حیثیت سے نازل ہوں گے صلیب کو توڑ دیں گے اور خنزیر کو قتل کر دیں گے جیسا ہے قابل ازیں بیان کیا جا چکا ہے؛

بہ ما عنہمی واللہ اعلم بالصواب